

محترم رہائشی حضرات،

ہمارے رہائشیوں اور عملے کی صحت اور تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ چونکہ ہم کورونا وائرس کی وباء کے سبب آنے والی آزمائشوں سے نیٹھے کی غرض سے مل جل کر کام کر رہے ہیں لہذا آپ کے شراکت داری نبھاتے رہنے پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔

ہم آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ضروری خدمات فراہم کرنے اور کوئی بھی ایسی معلومات پہنچانے کی غرض سے دن رات کام کر رہے ہیں کہ جو مفید اور متعلقہ ہو سکتی ہوں۔ جیسے جیسے COVID-19 کے حساب سے صورتحال تبدیل ہوتی ہے، ہم سرکاری ارباب اختیار جیسا کہ NYC کے محکمہ صحت اور دیگر کی جانب سے ملنے والی ہدایات کے مطابق اپنی پالیسیوں کی تجدید کاری کرتے رہیں گے۔

چہرے کے نقاب

اس ہفتے گورنر کیومو (Cuomo) نے چہرے کے نقاب کے استعمال سے متعلق اہم انتظامی احکامات جاری کیے ہیں۔

گورنر نے ایک انتظامی حکم جاری کیا ہے جو جمعہ، 17 اپریل، 2020، رات 8 بجے سے نافذ العمل ہو جائے گا جو بیان کرتا ہے کہ کوئی بھی فرد، بشمول NYCHA کے باشندگان کے جو کہ 2 سال سے زائد عمر کے ہوں اور چہرے پر نقاب پہننے کے قابل ہوں انہیں عوامی جگہ پر موجودگی کے دوران اور جب سماجی فاصلہ رکھنے سے قاصر ہوں، یا نہ رکھ پا رہے ہوں (کم از کم چھ فٹ کے فاصلے کا قیام)، تو اپنی ناک اور منہ کو ماسک یا کپڑے کے نقاب سے ڈھانپنا ہو گا۔ نقاب کے زمرے میں کوئی بھی ایسا کپڑا آ سکتا ہے جو آپ کے ناک اور منہ کو ڈھانپتا ہو، جس میں گرد و غبار سے بچنے کا ماسک، دوپٹہ اور رومال شامل ہیں۔

آپ اور آپ کے اہل خانہ کو لازماً NYCHA کی تعمیراتی حدود کے اندر موجود عوامی جگہوں اور عوامی علاقوں، جیسا کہ ہال گاہوں، ایلیویٹرز، لابی، عمارت کے داخلی حصوں، انتظامی دفاتر، کھیل کے میدانوں (جو کہ فی الحال بند ہیں)، بیٹھنے کی جگہوں، اور گزر گاہوں وغیرہ میں اس حکم کی پیروی کرنا ہو گی۔

اس کے ساتھ ساتھ، گورنر اور شہر نے ایک اور حکم جاری کیا ہے جو تمام ناگزیر ملازمین سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ عوامی ممبران کے ساتھ براہ راست رابطے کے وقت - یعنی کہ، جب جائے کار پر ملازمین دوسرے فرد، بشمول ساتھی کارکنان اور رہائشیوں سے چھ فٹ کے فاصلے کے اندر یا اس سے کم فاصلے پر موجود ہوں تو اپنا منہ اور ناک ڈھانپیں۔

اس انتظامی حکم کے مطابق، NYCHA ان تمام ملازمین کے لئے چہرے کے نقابوں کا اجرا کر رہا ہے کہ جو NYCHA کے ان تعمیراتی اداروں اور دفاتر میں کام کرتے ہوں کہ جہاں عملہ کسی اور عملے کے ممبر یا عوامی ممبران، بشمول رہائشیوں کے ساتھ براہ راست رابطے میں آ سکتا ہو۔ اس میں اپارٹمنٹس، عوامی جگہیں، انتظامی دفتر کی انتظار گاہیں، اور بیرونی جگہیں جیسا کہ عمارت کے داخلی حصے، کھیل کے میدان، بیٹھنے کی جگہیں، اور گزر گاہیں شامل ہیں۔

چہرے کے نقاب کا مقصد اس کے پہننے والے کو دوسروں تک COVID-19 کو پھیلانے سے روکنا ہے۔ اسے سماجی فاصلہ بندی اور ہاتھوں کی صفائی کے نعم البدل کے طور پر تسلیم نہیں کیا جاتا۔ COVID-19 سے اپنا تحفظ کرنے کی خاطر آپ کو ہمیشہ کم از کم چھ فٹ کے فاصلے پر مبنی سماجی فاصلہ بندی اور ہاتھوں کی صفائی کو بنیادی اقدامات کے طور پر اپنانا چاہیئے۔

رہائشیوں اور ملازمین کے لئے اضافی تحفظاتی اقدامات

چہرے کا نقاب پہننے کے ساتھ ساتھ، NYCHA کے اس عملے کو جو خدمات اور مرمتیں انجام دینے کی غرض سے رہائشیوں کے اپارٹمنٹس میں جاتا ہے دیگر احتیاطی تدابیر بھی کرنا ہوں گی، جن میں رہائشیوں سے ان کی صحت کے

بارے میں پوچھنا اور اپارٹمنٹ میں موجود دیگر افراد سے کم سے کم چھ فٹ کا سماجی فاصلہ برقرار رکھنا شامل ہے۔ اپنے اپارٹمنٹ میں کام کے دوران NYCHA کے عملے کو محفوظ رکھنے کی غرض سے ہم رہائشیوں سے بھی نقاب پہننے کی درخواست کریں گے۔

ہم تجویز کرتے ہیں کہ رہائشی افراد بھی عملے کے ممبران کو اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہونے کی اجازت دینے سے قبل ان کی صحت کے بارے میں پوچھیں۔ اگر گھرانے کا کوئی فرد طبیعت ٹھیک محسوس نہ کر رہا ہو، تو NYCHA کی جانب سے درخواست ہے کہ خاندان کے افراد مرمتی کام مکمل ہونے تک ایک علیحدہ کمرے میں دروازہ بند کر کے رہیں۔ اگر علیحدہ کمرہ میسر نہ ہو، تو ہم عملے کے ارکان اور رہائشیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ مرمتی کام مکمل ہو جانے تک ایک دوسرے سے کم از کم چھ فٹ کا فاصلہ قائم رکھیں۔

عملہ مرمتی کام کے دوران ہوا کی آمدورفت بڑھانے کی غرض سے اپارٹمنٹ کی کوئی کھڑکی بھی کھول سکتا ہے۔

اگر رہائشی فرد عملے کے رکن کو اپنے اپارٹمنٹ میں آنے کی اجازت نہ دینے، یا ان ہدایات پر عمل نہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، تو عملہ ملاقات دوبارہ سے طے کرنے کی غرض سے اپنے نگران اعلیٰ کے ساتھ کام کرے گا۔

COVID-19 کے بحران سے متعلقہ تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لئے، براہ کرم [یہاں](#) کلک کر کے ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں۔ جب بھی نئی معلومات دستیاب ہوئیں ہم انہیں آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔

آپ کا شکریہ۔ ہم مل جل کر ان آزمائشوں پر قابو پا لیں گے، اور ہم ان سے پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بن کر ابھریں گے۔

خیر خواہ،